

Telephone conversation between Prime Minister and His Excellency Joseph R. Biden, President of the United States of America

February 08, 2021

وزیراعظم جناب نریندر مودی اور امریکی صدر عزت مآب جوزف آر بائیڈن کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو

08 فروری، 2021

نئی دہلی، 08 فروری: وزیراعظم جناب نریندر مودی نے آج ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر عزت مآب جوزف آر بائیڈن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔

وزیراعظم نے صدر بائیڈن کو گرم جوشانہ مبارکباد دی اور ان کی مدت کار کے لئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہند امریکہ کلیدی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے لئے ان کے ساتھ ملکر کام کرنے کے لئے امید کا اظہار بھی کیا۔

دونوں رہنماؤں نے خطہ کے واقعات اور وسیع تر جغرافیہ، سیاسی صورتحال پر طویل گفتگو کی۔ انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ ہند امریکہ شراکت داری جمہوری اقدار اور مشترکہ کلیدی مفادات کے حوالے سے ایک مشترکہ عہد پر مبنی ہے۔ انہوں نے ہم خیال ممالک کے ساتھ ملکر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ ایک ضابطہ پر مبنی بین الاقوامی نظام اور ایک آزاد کھلے ہوئے اور شمولیاتی ہند بحر الکاہل خطہ کو یقینی بنایا جاسکے۔

وزیراعظم اور صدر بائیڈن نے ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کی اہمیت کی تصدیق کی۔ وزیراعظم نے صدر بائیڈن کی پیرس معاہدہ کی طرف مراجعت کا خیر مقدم کیا اور ہندوستان نے قابل تجدید توانائی کے سیکٹر میں جو گرم جوشانہ اہداف مقرر کئے ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی۔ وزیراعظم نے صدر بائیڈن کی طرف سے اس سال اپریل میں ماحولیات سے متعلق رہنماؤں کی چوٹی کانفرنس منعقد کرنے کی طرف پہل کا خیر مقدم کیا اور اس میں اپنی شرکت کی امید ظاہر کی۔

وزیراعظم نے اس موقع کافائدہ اٹھاتے ہوئے صدر بائیڈن اور ڈاکٹر جل بائیڈن کو جلد از جلد ہندوستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.